

نماز کے ذریعے کردار سازی کا قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک تجزیاتی مطالعہ An Analytical Study of Character Building through Salah in the Light of Quran and Sunnah

Ahsan Ud Din

MPhil Research Scholar (Islamic Studies), Superior University, Lahore
ahsanrazi66@gmail.com

Dr. Nealam Bano

Assistant Professor of Islamic Studies, Superior University, Lahore
nealam.bano@superior.edu.pk

Abstract:

Salah (Islamic prayer) is not merely a ritual act of worship but a comprehensive system for moral and spiritual development in Islam. Rooted in discipline, consciousness of God (taqwa), humility, and regularity, Salah shapes the inner and outer character of a believer. This research explores how the five daily prayers serve as a powerful tool for character building by instilling values such as honesty, punctuality, patience, gratitude, and humility. Drawing upon Qur'anic verses, prophetic traditions, and classical Islamic scholarship, the study illustrates how Salah reforms individual behavior, strengthens communal ties, and promotes ethical conduct. The paper argues that regular and mindful engagement in Salah leads to a disciplined, spiritually elevated, and morally sound personality, making it a cornerstone for both personal and societal well-being.

Keywords:

Salah, Character Building, Spirituality, Taqwa, Spiritually

اسلامی معاشرہ کی بنیاد صرف قوانین پر ہی نہیں بل کہ ایک مضبوط اخلاقی و روحانی کردار پر بھی قائم ہوتی ہے۔

اسلامی تعلیمات انسان کا ظاہر اور باطن دونوں کو سناورتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات کا تلقن صرف رسم و رواج یا حرکات

و سکنات سے نہیں بل کہ انسان کی روحانی، نفسیاتی اور اخلاقی تربیت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ نماز، اسلامی نظام تربیت کی اولین

ایٹھ ہے، جو مسلمان کو دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے سامنے حاضر کرتی ہے۔ نماز عبادت کے ساتھ ایک تربیتی عمل ہے جو

انسان کے عقائد، اخلاق، گفتار، کردار، تعلقات اور ذمہ داریوں کو منظم کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (۱)

ترجمہ: بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔

مفتوح مجرد شفیع عثمانی معارف القرآن میں اس آیت کی ضمن میں لکھتے ہیں جو شخص نماز کی اقامت کر لے تو نماز اس کو فحشاء اور مکر سے روک دیتی ہے۔ فحشاء ہر ایسے برے فعل اور قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی کھلی ہوئی اور ایسی واضح ہو کہ

ہر عقل والا مؤمن ہو یا کافر اس کو برائی سمجھے جیسے زنا، ناحق قتل، چوری، ڈاکہ وغیرہ اور مکروہ قول و فعل ہے جس کے ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو۔ چنانچہ فحشاء اور مکر کے دونوں میں تمام جرائم اور ظاہری و باطنی گناہ آگئے جو خود بھی فساد ہی فساد ہے اور اعمال صالحہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ (۲)

سورہ عنكبوت کی مذکورہ آیت اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ نمازِ محض عبادت نہیں بل کہ ایک کردار ساز نظام ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز ایسا کیسے کرتی ہے؟ یہ مضمون اسی سوال کا تفصیلی تحقیقی جائزہ پیش کرتا ہے۔

نماز اور اسلامی تربیت

اسلامی تربیت میں اخلاقی، فکری، روحانی، اور عملی پہلو شامل ہیں۔ نماز ان تمام پہلوؤں کو ہم آہنگ کرتی ہے۔

نماز سے حاصل ہونے والی تربیت درج ذیل اقسام کی ہوتی ہے:

عقیدے کی تربیت: نماز توحید، رسالت، آخرت، اور اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور کو زندہ رکھتی ہے۔ ہر رکعت میں "ایک نعبد و ایک نستعين" کا اعلان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، اور مدد بھی صرف اسی سے طلب کی جاسکتی ہے۔

روحانی تربیت: نماز دل کو اللہ سے جوڑتی ہے، سجدے میں بندہ اپنے رب سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی قربت نہیں:

"أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ" (۳)

ترجمہ: بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔

اخلاقی تربیت: نماز انسان کو فخش اور منکر سے روکتی ہے۔ نماز کا اثر اس کے گفتار و کردار میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو نماز ادا کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، اور غافلی سے بچتا ہے۔

نظم و ضبط کی تربیت: نماز کا ایک وقت پر، مقررہ انداز میں ادا کیا جانا نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ پانچ وقت کی نماز بندے کی زندگی کو منظم کر دیتی ہے۔

اجتماعیت کی تربیت: باجماعت نماز مسلمانوں کو اخوت، اتحاد، مساوات اور تنظیم کا سبق دیتی ہے۔ سب ایک امام کے پیچے برابر صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو فوکیت نہیں دی جاتی۔

ان تمام پہلوؤں کو اگر ہم جامع انداز میں دیکھیں تو نمازِ محض عبادت نہیں، بلکہ ایک ہمہ جہتی تربیتی ادارہ ہے۔

نماز کے فرد پر اثرات

نماز انسان کی انفرادی زندگی میں جس گہرائی سے اثر ڈالتی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام نماز کو "معراج المؤمن" کہتے تھے۔ نماز انسان کے اندر کی دنیا کو نکھراتی ہے:

ضمیر کی بیداری: نمازی شخص ہر وقت اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور سے باخبر رہتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔

وقت کی قدر: پانچ وقت کی نمازوں کی منصوبہ بندی، ترجیحات کی ترتیب اور وقت کے احترام کی بہترین مشق ہے۔ فجر کی نماز جلدی اٹھنے کا عادی بناتی ہے، جو سستی اور کامی کے خلاف جہاد ہے۔

توجہ اور ارتکاز: نماز انسان کے دماغ کو منتشر خیالات سے ہٹا کر توجہ کے مرکز پر لے آتی ہے۔ خشوع و خضوع ذہنی یکسوئی پیدا کرتا ہے۔

گناہوں سے باز رہنا: نماز میں اللہ کی عظمت کا اقرار، اور ہر سجدہ نفس کو دبانے کی مشق ہے۔ نماز کے ذریعہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔

نماز کے معاشرے پر اثرات

نماز کا تعلق صرف فرد کی ذات سے نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح و تعمیر سے ہے۔ جب ایک فرد نماز کے ذریعے اپنے نفس کو قابو میں لاتا ہے، سچائی، دیانت، وقت کی پابندی، اور نرمی جیسی صفات کو اختیار کرتا ہے، تو یہ خوبیاں صرف اس کے کردار میں محدود نہیں رہتیں بلکہ پورے معاشرے میں سراپا ایت کرتی ہیں۔

اجتیاعیت کا درس: باجماعت نماز اسلام میں اجتیاعیت کا سب سے بہترین مظہر ہے۔ امام کے پیچھے صاف بندی صرف ظاہری نظم نہیں بلکہ دلوں کے اتحاد کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((سَوْا صُفُوفُكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَبَامِ الصَّلَاةِ)) (۲)

ترجمہ: اپنی صفیں درست کرو کیونکہ صفوں کو درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔

مزید فرمایا:

((اسْتُوَا وَلَا تَخْتَلِفُو فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ)) (۵)

ترجمہ: صفیں سیدھی کرو، اور اختلاف مت کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔

معاشرتی عدل اور مساوات: نماز میں امیر و غریب، بادشاہ و فقیر، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عملی مساوات معاشرتی انصاف کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْعَارِفُوا إِنَّ أَكْثَرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَثْقَلُكُمْ﴾ (۶)

ترجمہ: اے لوگو بے ہم نے تمھیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا (وہ اس لیے کہ) تم ایک دوسرے کو پہنچان سکو تمھیں قوموں اور قبائل میں تقسیم کیا۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیز گار ہے۔

فلحی اور اخلاقی ماحول: حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا:

”إِنَّ صَلْحَتَ صَلَاحُهُمْ صَلَحَ النَّاسُ، وَإِنْ فَسَدُوا فَسَدَ النَّاسُ“ (۷)

ترجمہ: اگر نماز پڑھنے والے درست ہو جائیں تو لوگ بھی درست ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ بگڑ جائیں تو لوگ بھی بگڑ جاتے ہیں۔

سامانی تعلقات اور تعاون: روزانہ باجماعت نماز سے اہل محلہ کا میل جوں، خیریت دریافت، بیمار پر سی، اور باہمی معاونت کا جذبہ فروغ پاتا ہے، جو اسلامی معاشرت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔

نماز اور روحانی بالیدگی

نماز دل کی دیبا کو جلا بخشتی ہے، روحانی اطمینان عطا کرتی ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے آشنا کرتی ہے۔

ذکرِ الہی کا مرکز: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَتِمِ الصَّلَاةَ لِنِزْكِرِي﴾ (۸)

روح تحقیق، جلد ۳، شمارہ ۱، مسلسل شمارہ:ے، جنوری۔ مارچ ۲۰۲۵ء

ترجمہ: نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔

مفتی اعظم پاکستان معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي مطلب یہ ہے کہ نماز کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ اور نماز اول تا آخر اللہ کا ذکر ہے۔ (۹)

قربِ الٰہی کا ذریعہ: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((أَقْرُبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ ساجِدٌ فَكُثُرُوا الدُّعَاءَ)) (۱۰)

ترجمہ: بنده اپنے رب کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، پس اس وقت دعا زیادہ کرو۔

ترکیہ نفس: نماز کے ذریعے نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (۱۱)

ترجمہ: یقیناً فلاح پائی اس نے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔

خشووع کی کیفیت: سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ نماز کے وقت ان کے چہرے زرد پڑ جاتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے:

"کان إذا حضرت الصلاة، يتزلزل ويتغير لونه، فقيل له: ما لك؟ فيقول: جاء

وقت الأمانة" (۱۲)

ترجمہ: جب نماز کا وقت آتا تو ان کے جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی، چہرے کارنگ بدل جاتا، کہا جاتا: کیا ہوا؟ تو فرماتے: امانت (یعنی نماز) کا وقت آگیا۔
نماز اور اخلاقی اقدار

نماز انسان کے اخلاق کو سنوارنے، رویوں میں نرمی، لفتوں میں شانگی، عمل میں صداقت، اور دل میں خوفِ الٰہی پیدا کرنے کا سب سے موثر ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، اس کے اخلاق و کردار میں خود بخود بلندی آتی ہے، کیونکہ نماز نہ صرف اللہ سے تعلق جوڑتی ہے بلکہ غلط خدا سے حسن سلوک کا بھی سبق دیتا ہے۔

نماز کا اخلاقی پیغام:

قرآن مجید واضح اعلان کرتا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (۱۳)

ترجمہ: یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔

یہ آیت نماز کے اخلاقی ثمرات کا جامع بیان ہے۔ نماز بندے کے اندر خدا خونی، احتساب نفس، اور اخلاقی تطہیر پیدا کرتی ہے۔

صداقت اور دیانت کا سبب: سچا نمازی جھوٹ، خیانت، دھوکہ دہی اور فریب سے دور رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت اللہ کی گمراہی میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاةُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لَمْ يَزَدْ دِمَنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا)) (۱۴)

ترجمہ: جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے نہ روکے، وہ اللہ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتا۔

صبر، عفو، اور برباری: نماز انسان کے اندر صبر اور برداشت کا صفت پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو صبر کے ساتھ جوڑا:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (۱۵)

ترجمہ: صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔

حضرت علی فرماتے ہیں:

"الصَّلَاةُ مَفْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ" (۱۶)

ترجمہ: نماز ہر بھلائی کی کنجی ہے۔

یعنی جو نماز پر قائم ہو جاتا ہے، وہ دیگر اخلاقی خوبیوں کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔

حقوق العباد کا خیال: نماز بندے کو صرف اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ نہیں بلکہ وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی ترغیب بھی دیتی ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ صَلَى خَمْسَهَا، لَمْ يَضْيَعْ شَيْئًا مِنْ حَقُوقِ النَّاسِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيمَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (۱۷)

ترجمہ: جس نے پانچ وقت نماز پڑھی، اس نے لوگوں کے حقوق کو ضائع نہ کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ دے گا۔

حسنِ کلام اور نرم مزاجی: نماز بندے کی زبان کو بھی سنوارتا ہے۔ نمازی شخص لغو، گالی گلوچ، یا سخت زبان سے بچتا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے:

"(لِيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَانٍ وَلَا لَعَانٍ وَلَا فَاحِشٍ وَلَا بَذِيْعٍ)" (۱۸)

ترجمہ: مونہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ بے ہودہ گو، نہ بدزبان۔

اور یہ صفات مومن کی نماز سے تقویت پاتی ہیں۔

نماز اور وقت کی پابندی

23 نمازنہ صرف روحانیت کا عامل ہے بلکہ یہ انسان کی زندگی میں وقت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کے لیے ایک موثر طریقہ ہے۔ جب انسان نماز کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، تو وہ خود بخود اپنی روزمرہ زندگی میں بھی وقت کی اہمیت کو سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی زندگی میں نظم و ضبط آتا ہے اور وقت کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ وقت کی پابندی انسان کے کردار کو بہتر بناتی ہے اور اس کی زندگی کو خوشحال اور کامیاب بناتی ہے۔

وقت کی اہمیت کا درس: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت پر زور دیا ہے اور انسانوں کو وقت ضائع نہ کرنے کی تعلیم دی ہے:

﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ﴾ (۱۹)

ترجمہ: زمانہ کی قسم، انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور حق کی دعوت دی اور صبر کی تلقین کی۔

روحِ تحقیق، جلد ۳، شمارہ ۱، مسلسل شمارہ: ۷، جنوری۔ مارچ ۲۰۲۵ء

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

نماز اور وقت کی تنظیم:

نماز کے اوقات میں پابندی انسان کو نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے وقت کی اہمیت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر پیش کیا۔ آپ ﷺ کا معمول یہ تھا کہ آپ وقت پر نماز پڑھتے تھے اور کبھی بھی نماز کے اوقات کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا:

((کان النبیُّ صلی اللہ علیہ وسلم یحافظ علی صلاتِہ فی أوقاتِہ)) (۲۰)

ترجمہ: نبی ﷺ ہمیشہ اپنے وقت پر نماز کی پابندی کرتے تھے۔

یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نماز کو اس کے مخصوص اوقات میں پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان کی زندگی میں وقت کی اہمیت کا شعور پیدا کرتا ہے۔

وقت کی تدریج اور دنیاوی معاملات:

نماز انسان کو دنیاوی کاموں میں بھی وقت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ جو شخص نماز کے اوقات کی پابندی کرتا ہے، وہ اپنے دن کو بہتر انداز میں تقسیم کرتا ہے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَصَّلَ الْعَدْلُ خَمْسَةً فِي الْيَوْمِ، جَعَلَتْ لَهُ قُوتَةً لِيَوْمِهِ، وَلَا يَغْنِي عَنْهُ عَمَلٌ غَيْرُهُ)) (۲۱)

ترجمہ: جب بندہ دن میں پانچ نمازوں پڑھتا ہے تو اس کے دن کا رزق (محنت) اس کی نمازوں کے ذریعے پورا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی عمل اس کے کام نہیں آتا۔

یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وقت کا صحیح استعمال، جیسے نمازوں کی پابندی، انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی بہتری لاتا ہے۔

زندگی کی ترجیحات میں توازن:

نماز انسان کو سکھاتی ہے کہ زندگی میں توازن کیسے قائم کیا جائے، یعنی دین و دنیادوں کے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دینا۔ نماز کی پابندی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ ہر کام کے لیے وقت منقص کرنا ضروری ہے، اور اس میں پہلی ترجیح نماز کی ہی ہونی چاہیے۔ امام علی نے فرمایا:

"من لم یحفظ وقت صلاتِہ، لم یُحسنْ رِعایة سائرِ أوقاتِہ"

ترجمہ: جو شخص نماز کے وقت کی حفاظت نہیں کرتا، وہ اپنے دیگر اوقات کی حفاظت نہیں کر سکتا۔

یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھنا اور اسے نماز کے ساتھ مربوط کرنا ہماری زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔

دنیاوی کاموں میں نماز کا اثر:

نماز انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت ڈالتی ہے، اور یہ یقیناً وقت کی پابندی سیکھنے کا سب سے موثر ذریعہ ہے۔

نبی ﷺ نے فرمایا:

((من صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَائِعٍ، فَهُوَ فِي ذَمَّةِ اللَّهِ)) (۲۳)

ترجمہ: جو شخص فجر کی نماز بجماعت پڑھے، وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔

نماز انسان کو روزمرہ کے کاموں میں بھی وقت کی اہمیت سکھاتی ہے اور اللہ کی پناہ میں رہنے کا احساس دلاتی ہے۔

نماز اور عزم و ارادہ

نماز نہ صرف ایک روحانی عبادت ہے بلکہ یہ انسان کی شخصیت میں عزم و ارادے کی طاقت کو بھی بڑھاتی ہے۔

نماز کی پابندی انسان کو ایک مستحکم اور پایہ دار عزم عطا کرتی ہے، جو اسے زندگی کے مختلف چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ جو شخص اپنے روزانہ کے پانچ اوقات میں نماز قائم کرتا ہے، وہ ہر دن میں خود کو نئے عزم اور ارادے کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔

نماز اور عزم کا تعلق: نماز کی پابندی انسان کی شخصیت میں عزم و ارادہ پیدا کرتی ہے۔ جب ایک شخص نماز کے اوقات میں پابندی کرتا ہے، تو اس کے اندر پختہ ارادہ اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی بھی کام چھوٹا یا مشکل نہیں گتا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پر چلنے والوں کے لیے جرات، عزم اور پختہ ارادے کی مثال دی ہے:

((وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)) (۲۴)

ترجمہ: اور اے میرے رب! مجھے علم میں اضافہ عطا کر۔

یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلنے والے لوگوں کو طاقت، عزم اور علم سے نوازتا ہے۔ نماز

بھی اسی راستے پر چلنے کی ایک شکل ہے جس سے انسان کا عزم مضبوط ہوتا ہے۔

نماز اور اللہ پر اعتماد: نماز میں انسان اللہ کے سامنے اپنا عزم ظاہر کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کی تقدیر کا بھر پور اعتماد بھی رکھتا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

"من صَلَّى اللَّهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَائِعٍ، يَدْرُكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، كُتِبَتْ لَهُ بِرَاءَةُ"

براءة من النار، وبراءة من النفاق" (۲۵)

ترجمہ: جو شخص چالیس دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور پہلی تکبیر کو پالے، اللہ تعالیٰ اسے دو براءتیں عطا کرتا ہے:

ایک جہنم سے اور دوسرا نفاق سے۔

یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نماز کی پابندی انسان کے عزم کو اور مضبوط کرتی ہے، اور اللہ پر اس کا اعتماد بڑھتا ہے۔

نماز اور روزمرہ زندگی کے فیصلے: نماز انسان کے عزم و ارادے کو مستحکم کرتی ہے اور اسے روزمرہ زندگی کے فیصلوں میں بھی مددیتی ہے۔ جب انسان نماز کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، تو وہ اپنے فیصلوں میں بھی اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اور اپنی مشکلات کا حل اللہ کی ہدایت سے تلاش کرتا ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا:

"مَنْ عَبَدَ اللَّهَ فِي الْمَاوِرِ، لَمْ يَخْفَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْأَمْوَارِ" (۲۶)

ترجمہ: جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ دنیا کی کسی بھی مشکل سے نہیں ڈرتا۔

نماز انسان کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ وہ اللہ کی مدد سے ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔

روحِ تحقیق، جلد ۳، شمارہ ۱، مسلسل شمارہ: ۷، جنوری۔ مارچ ۲۰۲۵ء

نماز اور مستقل مزاجی: نماز کی پابندی انسان کو مستقل مزاجی سکھاتی ہے۔ جو شخص نماز قائم کرتا ہے، وہ مستقل مزاجی کی عادت اپنالیتا ہے۔ نماز پانچ بار دن میں انسان کو اپنے مقصد کی یاد دلاتی ہے، اور اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ اسے کس طرح زندگی میں ثابت تدم رہنا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا:

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْرَأَ أَمْرٍ بِهِ حَقَّى يُؤْتَى بِهِ)) (۲۷)

ترجمہ: نبی ﷺ جب کسی کام کا حکم دیتے تھے تو وہ اس کام کو اس قدر مکمل کرتے تھے کہ وہ عمل مکمل ہو جاتا۔

یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ثابت قدی اور عزم میں استقامت ضروری ہے، جو نماز انسان میں پیدا کرتی ہے۔

نماز اور زندگی میں سکون: نماز انسان کی زندگی میں سکون و اطمینان پیدا کرتی ہے۔ یہ سکون اس کے دل میں اللہ کی یاد سے آتا ہے، جو اس کی زندگی کو روشن اور پر سکون بناتا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَرَاحَةً، إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَرَاحَةً)) (۲۸)

"یقیناً نماز میں سکون ہے، یقیناً نماز میں سکون ہے۔"

نماز انسان کو نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اس کے اندر پر امن زندگی گزارنے کی طاقت بھی پیدا کرتی ہے۔

نماز اور عاجزی

نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا انہصار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔

نماز میں انسان اللہ کے سامنے ایک فقیر اور عاجز بندہ بن کر حاضر ہوتا ہے، جو اپنی کمزوریوں اور تقصیرات کا اعتراف کرتا ہے۔ یہی عاجزی انسان کی روحانیت کی بلندی اور اخلاقی ترقی کی سب سے بڑی علامت ہے۔

نماز اور اللہ کے سامنے عاجزی: نماز میں قیام، رکوع، سجده، اور قعدہ جیسے اعمال میں انسان اپنے رب کے سامنے اپنا سرجھاتا ہے، اور یہ اس کی عاجزی اور انکساری کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

"وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُ الْخُلُونَ

جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ" (۲۹)

ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا: مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔

یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت میں تکبر کرنے والوں کو ذلت ملے گی، جبکہ عاجزی کرنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔

سجدہ اور عاجزی: سجدہ نماز کا سب سے اہم حصہ ہے اور یہ عاجزی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو وہ اپنی تمام تر خودی اور تکبر کو ایک طرف رکھ کر، اپنے رب کے سامنے مکمل طور پر عاجز بن جاتا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ)) (۳۰)

ترجمہ: بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔

یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سجدہ انسان کی عاجزی کا مظہر ہے اور یہ عبادت کا سب سے بلند دروازہ ہے جس میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔

نماز اور نرمی کا اثر: نماز انسان کو نرمی، عاجزی اور تواضع کا درس دیتی ہے۔ جو شخص نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی دکھاتا ہے، وہ اپنی زندگی کے دیگر پہلوؤں میں بھی نرمی اور انکساری اپناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی ﷺ سے نقل کیا:

((إِنَّ مَنْ أَبْلَغَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ : التَّوَاضُعُ)) (۳۱)

ترجمہ: سب سے اہم تعلیم جو تمام رسولوں نے دی، وہ تواضع ہے۔

اس حدیث میں نبی ﷺ نے تواضع کو سب سے بڑی اہمیت دی، جو کہ نماز کے ذریعے انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔

عاجزی اور دل کی صفائی:

نماز انسان کے دل کو صاف کرتی ہے اور اس میں تواضع کی صفت پیدا کرتی ہے۔ جب انسان نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، تو اس کا دل خالی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی عظمت کو تسلیم کر کے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا:

"الْتَّوَاضُعُ زِينَةُ الْإِيمَانِ" (۳۲)

ترجمہ: عاجزی ایمان کی زینت ہے۔

اس قول سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عاجزی ایمان کی سب سے خوبصورت خصوصیت ہے، اور نماز انسان کے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے۔

نماز اور انسان کی فطری عاجزی: نماز انسان کی فطرت کے مطابق ہے کیونکہ اس میں انسان اپنی اصل حالت، یعنی عاجزی اور فقر کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان جب نماز میں سجدہ کرتا ہے، تو وہ اپنی مخلوق ہونے کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ لِّيَبْتَلِيهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا)) (۳۳)

ترجمہ: ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، پھر اسے سنبھالو، دیکھنے والا، دیکھنے والا بنایا۔

یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی فطرت میں کمزوری اور عاجزی ہے، اور نماز اس کمزوری کو تسلیم کرنے کی حالت ہے۔

نتیجہ الجد

نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی روحانی، اخلاقی اور ذہنی تطہیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ نہ صرف اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ انسان کی شخصیت میں بھی نمایاں تبدیلیاں لاتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کو عاجزی، انکساری، عزم، ارادہ، اور خودی کے حقیقی مفہوم کا شعور ملتا ہے۔ نماز کی پابندی انسان کی زندگی کو توازن، سکون اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔

روح تحقیق، جلد ۳، شمارہ ۱، مسلسل شمارہ: ۷، جنوری۔ مارچ ۲۰۲۵ء

نماز انسان کے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے روشن کرتی ہے اور اس کے اندر سکون و اطمینان پیدا کرتی ہے۔ سجدہ اور قیام کی حالت میں انسان اپنی کمزوریوں اور تقصیرات کا اعتراف کرتا ہے، اور یہی اعتراف انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ نماز کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے اور اسے دنیاوی زندگی میں بھی اخلاقی طور پر پہنچتے اور باہمیت بناتی ہے۔

نماز انسان کی شخصیت کے تمام اہم پہلوؤں کو بہتر بناتی ہے۔ یہ انسان کو پائیدار عزم، عاجزی، تواضع، اور روحانیت سے نوازتی ہے۔ ان تمام خصوصیات کی موجودگی انسان کی زندگی کو کامیاب بناتی ہے اور اس کے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مقدم کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ایک باقاعدہ نماز کا عادی انسان معاشرتی، روحانی اور اخلاقی سطح پر اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز نہ صرف ایک فرض عبادت ہے بلکہ یہ انسان کی روحانیت کی بندی اور اخلاقی ترقی کی ضامن بھی ہے۔ باجماعت نماز انسان کو اجتماعی نظم، مساوات و برابری، اور باہمی محبت کا سبق دیتی ہے۔ مسجد میں امیر و غریب، اعلیٰ وادیٰ سب ایک صفت میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور جھکتے ہیں، جو مساوات اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔



حوالے

- (۱) العکبوت: ۲۵
- (۲) مفتی شفیع عثمانی، معارف القرآن، (کراچی: ادارہ معارف القرآن، ۲۰۰۸ء)، ج: ۱، ۶۹۶۔
- (۳) مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری، صحیح مسلم، (بیروت: کتبہ دارالسلام)، ج: ۱، ۳۸۲: ۲۸۳۔
- (۴) محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، (بیروت: مکتبۃ دار طوق النجۃ)، ج: ۱، ۷۲۳: ۲۸۸۔
- (۵) مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری، صحیح مسلم، ج: ۳۲: ۳۳۲۔
- (۶) الحجرات: ۱۳۔
- (۷) ابوعبداللہ احمد بن حنبل، الزہد، (بیروت: مکتبۃ الاسلامیۃ، ۲۰۰۵ء)، ج: ۱۱۰۔
- (۸) طلا: ۱۳۔
- (۹) مفتی شفیع عثمانی، معارف القرآن، ج: ۱، ۱۷۔
- (۱۰) مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری، صحیح مسلم، ج: ۳۸۲
- (۱۱) الاعلی: ۱۵-۱۲۔
- (۱۲) ابوعبداللہ احمد بن حنبل، الزہد، ۲۰۳۔
- (۱۳) العکبوت: ۲۵۔
- (۱۴) سلیمان بن احمد الطبرانی، المعجم الأوسط، (الریاض: مکتبۃ المعارف، ۱۴۰۵ھ)، ج: ۳، ۳۱۳۲: ۱۲۳۔
- (۱۵) البقرہ: ۳۵۔
- (۱۶) یوسف بن عبد اللہ بن عبد البر القرطبی، جامع بیان العلم وفضله، (الریاض: دار ابن الجوزی، ۱۴۳۵ھ)، ج: ۲، ۲۲۳: ۲۔
- (۱۷) احمد بن حسین یقینی، شعب الایمان، (الریاض: مکتبۃ الرشد، ۱۴۰۹ھ)، ج: ۱، ۳۰۷۱: ۳۷۹۔
- (۱۸) محمد بن عیسیٰ ترمذی، السنن، (بیروت: دار الفکر)، ج: ۲، ۱۹۷۷: ۳۵۰۔
- (۱۹) العصر: ۳-۱۔

(٢٠) محمد بن إسحاق بخاري، صحيح بخاري، ج: ٢٧، ٥٣١: ١، ٢٧١.

(٢١) سليمان بن احمد الطبراني، المعجم الأوسط، (الرياض: مكتبة المعارف)، ج: ٣، ٣١٢٥: ٣، ١٩٢.

(٢٢) ابو محمد حسن بن علي حراني، تحفة العقول، (بيروت: مكتبة ناصرية)، ٢٠٠٢: ٢٠٣، ١٣٦.

(٢٣) مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري، صحيح مسلم، ج: ٢٥٠.

(٢٤) ط: ١١٣.

(٢٥) محمد بن يزيد ابن ماجه، السنن، (بيروت: دار الفكر)، ج: ٨٠٢.

(٢٦) ابن أبي الحميد، نهج البلاغة، (بيروت: دار أحياء التراث العربي)، ٢: ٧٧.

(٢٧) محمد بن إسحاق بخاري، صحيح بخاري، ج: ٢٣٦.

(٢٨) مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري، صحيح مسلم، ج: ٢٣٢.

(٢٩) غافر: ٦٠.

(٣٠) مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري، صحيح مسلم، ج: ٣٨٢.

(٣١) محمد بن حبان دارمي، الصحيح، (لondon: مكتبة الإحسان)، ج: ٣١٥.

(٣٢) محمد بن شيري، ميزان الحكمة، (قطر: دار الحديث)، ٢٠٠٢: ٩، ٣٩٨.

(٣٣) الدر: ٢.

References

- 1- Al-Ankaboot: 45
- 2- Mufti Shafi Usmani, *Ma'arif-ul-Quran*, (Karachi: Idarah Ma'arif-ul-Quran Karachi, 2008), 6: 696
- 3- Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri, *Sahih Muslim*, (Beirut: Maktabah Dar-us-Salam, H: 482, 1: 283.
- 4- Muhammad bin Ismail Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Maktabat Dar Tawaq al-Najat), H: 723, 1: 288.
- 5- Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri, *Sahih Muslim*, H: 432.
- 6- Al-Hujurat: 13.
- 7- Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani, *Kitab al-Zuhd*, (Beirut: Maktabah al-Islamiyyah, 2005), 110.
- 8- Taha: 14
- 9- Mufti Shafi Usmani, *Ma'arif-ul-Quran*, 6: 71
- 10- Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri, *Sahih Muslim*, H: 482
- 11- Al-A'la, 14-15
- 12- Az-Zuhd, 203
- 13- Al-Ankaboot, 45
- 14- Sulaiman bin Ahmad At-Tibarani, *Al-Mu'jam Al-Awsat*, (Al- Riyadh: Maktabat al-Ma'rif, 1405H), 3: 123, H: 4142.
- 15- Al-Baqarah, 45
- 16- Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barr Al-Qurtubi, *Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi*, (Dar Ibn al-Jawzi, 1435 h), 2: 624.
- 17- Ahmad bin Husain Bayhaqi, *Shu'ab al-Iman*, (Al Riyadh: Maktabat al-Rushd, 1409 h), 3: 379, H: 3071.
- 18- Muhammad bin Isa Tirmidhi, *Al-Sunan*, (Beirut: Dar al-Fikr, 4: 350, H:1977

- 19- Al-Asr, 1-3
- 20- Muhammad Bin Ismail Al Bukahri, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Dar Tuq Al Nijat) H: 537, 1:271
- 21- Sulaiman bin Ahmad Al-Tabarani, *Al-Mu'jam Al-Awsat*, (Al Riyad : Maktabat al-Ma'arif), 3: 192, H: 3145
- 22- Abu Muhammad Hassan Bin Ali Harani, *Tuhaf al-Uqul*, (Beirut: Maktabah Nasiriyah), 146.
- 23- Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri, *Sahih Muslim*, H: 650
- 24- Taha: 114
- 25- Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *As-Sunan*, (Beirut: Dar al-Fikr), H: 802
- 26- Ibn Abi al-Hadid, *Nahj al-Balagha*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), 2:77
- 27- Muhammad bin Ismail Bukhari, *Sahih Bukhari*, H: 646
- 28- Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri, *Sahih Muslim*, H: 732.
- 29- Ghafir : 60
- 30- Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri, *Sahih Muslim*, H: 482
- 31- Muhammad bin Hibban Darmi, *As-Sahih*, (Lakhnaw: Maktabat al-Ihsan) H: 315
- 32- Muhaammad Ray Shehri, *Mezan Al Hikmah*, (Qum: Dar Ul Hadith 2006), 9: 398
- 33- Al-Dahr : 2

